

يَا إِلَهَ الْعَزُوفِ عَنِ الْحِسَابِ  
كَبِيرُ الدِّينِ قَبْلَ كُلِّ حِدْدَةٍ تَرْتَقُونَ

# روزہ اعتكاف رویتِ هلال فطرہ

(چار مراجع کے مطابق)

مرتبہ: محمد رضا داؤدی

# التماس سورة فاتحة

برائے ایصال ثواب

مرحوم محمد حسین ولد شعبان علی فرشتہ

حاجی علی محمد فرشتہ

معصوم علی ولد حاجی علی محمد فرشتہ

فدا حسین مادھی

رجب علی ولد فدا حسین

اقبال حسین پڈھانی

شہید کسل رضا فرشتہ

# روزہ

## اعتكاف

### رویت هلال

## فطرہ

(چار مراجع کے مطابق)

مرتبہ: محمد رضا داؤدی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### مقدمہ

- السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ
- الحمد للہ اگلے صفحات میں آپ روزے اور اعتصاف سے متعلق آداب و  
احکام پڑھیں گے۔
- فطرے اور چاند کے سائل پہلے ہی پہلٹ کی صورت میں بعض  
موئین تقسیم کر رہے تھے۔ مناسب محسوس ہوا کہ ان کو بھی کتاب کے  
اختتام پر شامل کیا جائے۔
- اس کتاب میں درج ذیل چار مراجع کے فتاویٰ کو پیش نظر رکھا گیا:

  - ۱۔ مرحوم آیت اللہ خوئی ۲۔ مرحوم امام شیعی
  - ۳۔ آیت اللہ سیستانی مدظلہ ۴۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای مدظلہ

- چند مقامات کے سوا فتاویٰ کے اختلاف کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ کوشش کی  
گئی ہے کہ سائل کو اختیاط کے مطابق لکھا جائے۔
- تفصیلات جانے کے خواہشمند احباب تو فتح المسائل اور دیگر کتب کی  
طرف رجوع کریں۔
- کتاب کو friendly Reader بنانے کے لیے مانوس الفاظ کو دوستانہ  
انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ پڑھنے والے کو بوجھ  
محسوس نہ ہو۔
- اس کتاب پر میں بیان کردہ مسجدات رجاءٰ مطلوبیت کی نیت سے انجام  
دیئے جاسکتے ہیں۔
- ☆ رجاءٰ مطلوبیت یعنی: اس امید پر انجام دینا کہ یہ کام خدا کو مطلوب ہے۔

## اطہارِ تشکر

- ۱۔ اس کتاب کی تیاری میں:
- (الف) جمیع الاسلام والملین جناب محمد حسین فلاح زادہ صاحب کی کتاب آموزش فقہ (صحیح عالی)،
  - (ب) جمیع الاسلام والملین جناب محمد رضا مشققی پور صاحب کی کتاب احکام آموزشی (عبادات صحیح ۳) اور
  - (ج) جمیع الاسلام والملین جناب سید مجتبی حسینی صاحب کی کتاب احکام روزہ سے بھر پور استفادہ کیا گیا۔
- ۲۔ استاد محترم جمیع الاسلام والملین مولانا علی رضا صالحی صاحب نے نظر ثانی اور ضروری تصحیح و اصلاح فرمائی ہے۔
- ۳۔ برادر رضا رضوانی نے مفید مشوروں سے نوازا اور تکمیلی معاونت فراہم کی۔ میں ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم

بحق محمد و آلہ الطاهرين

محمد رضا داؤدی

۲۷ ربیعان ۱۴۲۹ھ بروطانی ۳۰ رائٹ ۲۰۰۸ء

## اظہار خیال

بسم اللہ تعالیٰ۔ جناب مولانا محمد رضا داؤدی صاحب کی جانب سے ترتیب شدہ اس کتابچہ کا مطالعہ کیا۔ موصوف نے تین انداز سے مسائل شرعیہ کو بیان کرنے کا بیڑا اختیار کیا ہے۔ اردو زبان میں یہ نئی کوشش ہے اور اس میں چار باتوں کو خاص طور پر موصوف نے مد نظر رکھا ہے:

ایسے مسائل کو ذکر کیا جائے جو بالعموم مومنین کو پیش آتے ہیں۔

مسئل کو بیان کرنے کی زبان وہ ہو جو روزمرہ میں یوں جاتی ہے۔

جہاں تک ممکن ہو سکے اختلافی مسائل کے ذکر سے گریز کیا جائے اور احتیاط کے مطابق مسائل بیان کیے جائیں۔

مسئل کو مختصر اور منطقی ترتیب سے بیان کیا جائے۔

ہر نئی کوشش اپنے اندر محاسن و معایب لیے ہوتی ہے یہ ہی صورتحال اس کتابچہ کے ساتھ بھی ہے، جہاں یہ کتابچہ بہت سے مومنین کی مشکلات کا حل ہو گا وہاں احتیاط کے جنا پر ترتیب پانے کی وجہ سے ممکن ہے بعض مومنین کو مالی یا بدینی زحمت میں بدلاؤ کرنے کا باعث بنے۔ لیکن معمول مومنین مسائل شرعیہ کی جانب عملی ضرورت کے وقت ہی رجوع کرتے ہیں اور اس موقع پر تفصیل ہمیشہ مقدور نہیں ہوتی ہے، یہ کتابچہ ایسے وقت کے لئے بہترین رہنمای ثابت ہو گا۔

آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جناب محمد رضا داؤدی صاحب کی اس کوشش کو شرف قبولیت عطا ہو اور موجب شادی امام عصر تجلی اللہ تعالیٰ فرج قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیقات عطا فرمائے تاکہ باقی فقہی عنادیں کو بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ عملی صورت دے پائیں۔ والسلام

ناچیز علی رضا صاحبی

لکم رمضان المبارک ۱۴۲۹ھ

## فہرست

۱۹	روزہ ..... روزہ
۱۹	مکھیوم روزہ ..... مکھیوم روزہ
۱۹	اصطلاح میں اس سے مراد:
۱۹	روزے کی اقسام ..... روزے کی اقسام
۱۹	واجب روزے خلا ..... واجب روزے خلا
۱۹	روزے کی نیت ..... روزے کی نیت
۲۰	نیت کا وقت کب تک؟ ..... نیت کا وقت کب تک؟
۲۰	مہبلات روزہ ..... مہبلات روزہ
۲۱	۱۔ کھانا پینا ..... ۱۔ کھانا پینا
۲۱	۲۔ انجکشن کا استعمال ..... ۲۔ انجکشن کا استعمال
۲۱	۳۔ ڈرپ کا استعمال ..... ۳۔ ڈرپ کا استعمال
۲۱	۴۔ مسروٹھوں سے خون ..... مسروٹھوں سے خون
۲۱	۵۔ غرارے کرنا ..... غرارے کرنا
۲۱	۶۔ دانٹوں کا علاج ..... دانٹوں کا علاج
۲۱	۷۔ ٹوٹھ پیٹ کا استعمال ..... ٹوٹھ پیٹ کا استعمال
۲۲	Dental Floss یا Tooth Pick کا استعمال ..... Dental Floss یا Tooth Pick کا استعمال
۲۲	۸۔ آنکھ اور ناک میں ڈالنے والے قطروں کا استعمال ..... آنکھ اور ناک میں ڈالنے والے قطروں کا استعمال
۲۳	۹۔ قیریں کا علاج ..... قیریں کا علاج
۲۳	۱۰۔ بیکھر کا علاج ..... بیکھر کا علاج
۲۴	۱۱۔ بیکھر کا علاج ..... بیکھر کا علاج
۲۴	۱۲۔ بیکھر کا علاج ..... بیکھر کا علاج
۲۴	۱۳۔ بیکھر کا علاج ..... بیکھر کا علاج
۲۴	۱۴۔ بیکھر کا علاج ..... بیکھر کا علاج
۲۴	۱۵۔ بیکھر کا علاج ..... بیکھر کا علاج
۲۴	۱۶۔ بیکھر کا علاج ..... بیکھر کا علاج
۲۴	۱۷۔ بیکھر کا علاج ..... بیکھر کا علاج
۲۴	۱۸۔ بیکھر کا علاج ..... بیکھر کا علاج
۲۴	۱۹۔ بیکھر کا علاج ..... بیکھر کا علاج

۲۔ زیادہ پیاس کا مریض ....	۲۲	۲۵ ..... استھا کرنا
۳۔ حامل خاتون .....	۲۳	۲۷ ..... جماع کرنا
۴۔ بچے کو دودھ پلانے والی خاتون	۲۳	۸ ..... جتابت کی حالت پر اذان صبح
	.....	۲۸ ..... تک باقی رہتا
۵۔ بیمار .....	۲۳	۲۹ ..... عسل مس میت اور روزہ ....
قضا روز سے متعلق کچھ اور باقیں	۲۵	۹ ..... خاتون کا حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد اذان صبح سے پہلے
دوام بائیں .....	۲۷	۳۰ ..... عسل نہ کرنا
ماں باپ کے قضا روز سے ...	۲۸	۳۱ ..... استھا حصہ اور روزہ .....
سفر کے روز سے .....	۲۹	۱۰ ..... پہنے والی چیز سے ٹکنے لینا
چند نکات .....	۲۹	۳۱ .....
منتخب روزہ .....	۵۱	۳۲ ..... کچھ کلی احکام
اعتکاف .....	۵۲	۳۳ ..... ما و رمضان کا کفارہ .....
اعتکاف کی شرائط .....	۵۲	۳۵ ..... اسی سے متعلق کچھ اور مسائل ..
احکام اعتکاف .....	۵۳	۳۶ ..... ما و رمضان کا قضا روزہ توڑنے کا کفارہ .....
اعتکاف کے دوران حرام بائیں	۵۵	۳۷ ..... تاخیر کرنے کا کفارہ .....
عید کے چاند کے متعلق .....	۵۶	۳۹ ..... فدیہ یعنی "بدل" یا "عوض"
خلاص .....	۵۹	۴۱ .....
فطرہ .....	۶۰	۴۱ ..... فدیہ کون دیتا ہے؟ .....
		۴۲ ..... ا۔ ضعیف مرد یا خاتون .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## روزہ

مفہوم روزہ

- روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔
- لغت (Dictionary) میں صوم کا مطلب ہے: کسی چیز سے رکنا یا بچنا۔

اصطلاح میں اس سے مراد:

- کھانے پینے اور کچھ اور چیزوں سے بچنا۔
- کب سے کب تک؟
- اذان صبح سے اذان مغرب تک۔
- مگر کیوں؟
- حکم خداوندی کو انجام دینے کے لیے۔

سوال: اسے روزہ کیوں کہتے ہیں؟

جواب: کیونکہ یہ عبادت رات کی نہیں دن کی ہے اور دن کو روز کہتے ہیں۔  
لہذا اسے روزہ کہا گیا۔

## روزے کی اقسام

- ۱۔ واجب روزہ (مثال: ماہ رمضان کا روزہ)
- ۲۔ مستحب روزہ (مثال: رجب یا شعبان کا روزہ)
- ۳۔ مکروہ روزہ (مثال: عاشور کا روزہ)
- ۴۔ حرام روزہ (مثال: عید الفطر اور عید قربان کا روزہ)

توجہ:

• اگر معلوم ہے کہ روزہ ضرر کا باعث ہے تو واجب روزہ رکھنا بھی حرام ہو جائے گا۔

ضرر کی مثال: (i) معلوم ہے کہ روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا

یا

(ii) یہاری طویل ہو جائے گی۔

سوال ۲: یہ پتہ کیسے چلے گا؟

جواب: ذاتی اطمینان کی وجہ سے

یا

سابقہ تجربوں کی روشنی میں

یا

قابل اطمینان ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے

یا

کسی اور عقلی دلیل سے

سوال ۳: ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ نقصان دہ ہے۔ میں مطمئن ہوں کہ ایسا کوئی Problem نہیں ہے۔ کس کی بات چلے گی؟ میری یا ڈاکٹر کی؟

جواب: آپ کی بات چلے گی۔ آپ اپنے اطمینان پر عمل کریں۔

### واجب روزے مثلاً

- ۱۔ ماہ رمضان کے روزے
  - ۲۔ قضا روزے
  - ۳۔ کفارے کے روزے
  - ۴۔ ماں باپ کے قضا روزے پڑے میٹے پر
  - ۵۔ نذر وغیرہ کی وجہ سے واجب ہونے والے روزے
  - ۶۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے تیرے دن کا روزہ
  - ۷۔ حج تمعن کی تربانی کے بدلتے رکھے جانے والے روزے۔
- (تفصیل کے لیے مناسک حج کی طرف رجوع کریں)

## روزے کی نیت

سوال ۱: کیا روزے کی نیت ضروری ہے؟

جواب: جی ہاں۔ روزہ عبادت ہے اور عبادت نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

سوال ۲: کیا نیت کچھ الفاظ کہنے کا نام ہے؟

جواب: جی نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔

سوال ۳: یہ ارادہ کیا ہو؟

جواب: میں: • اذان صبح سے اذان مغرب تک

• روزہ رکھتا ہوں۔ • قربة إلى الله

سوال ۴: قربة إلى الله یعنی؟

جواب: حکم خدا کو انجام دینے کے لیے۔ جس کے نتیجے میں لازمی طور پر خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے۔

سوال ۵: اذان صبح سے کیا مراد ہے؟ نماز کا وقت ہو جانے کے 15 منٹ

بعد میرے محلے کی مسجد میں اذان ہوتی ہے تو کیا میرا روزہ اس

اذان سے شروع ہوگا؟

جواب: جی نہیں بلکہ اذان صبح سے نماز صبح کا اوپرین وقت ہی مراد ہے۔

نوت: یہ یقین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ:

(i) اس وقت سے کچھ دیر پہلے ہی کھانا پینا وغیرہ ترک کر دیا جائے۔

(ii) مغرب کے بعد بھی کچھ دیر ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔

توجه: ماہ رمضان میں روزے کے دوران اگر اپنی نیت سے پلٹ جائے یا

جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو روزہ

ٹوٹ جائے گا چاہے پھر اسے انجام نہ دے۔

سوال ۶: رکھا جانے والا روزہ کونسا ہے؟ کیا یہ طے کرنا ضروری ہے؟ لیجنی کیا یہ کیا جاسکتا ہے کہ بغیر طے کئے روزہ رکھ لیا جائے اور بعد میں اپنی ررضی سے قضا یا کفارے کا روزہ قرار دے دیا جائے؟

جواب: جی نہیں بلکہ طے کرنا ضروری ہے کہ یہ قضا کا روزہ ہے یا کفارے کا یا کوئی اور۔

توجہ: ماہ رمضان میں خود بخود یہ طے ہے کہ رکھا جانے والا روزہ ماہ رمضان کا ہے کیونکہ اس مہینے میں کوئی اور روزہ رکھا ہی نہیں جاسکتا۔

سوال ۷: میں بھول گیا کہ کل ماہ رمضان کی 15 تاریخ ہے یا 16۔ کیا اس سے بھی روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟

جواب: جی نہیں اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

سوال ۸: میں نے ابھی کل کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں کیا۔ میں نیت کب تک کر سکتا ہوں؟

جواب: دیکھنا پڑے گا کہ روزہ کس قسم کا ہے۔ واجب ہے یا مستحب۔ واجب ہے تو واجب کی کوئی قسم ہے۔ ذیل میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے لیکن توجہ رہے کہ:

بعض Cases میں آپ دیکھیں گے کہ اذان صبح کے بعد بھی نیت کی اجازت ہے۔ یہ صرف اس صورت میں ہے جب اذان صبح سے اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کر دیتا ہے۔

مثال: مستحب روزے کی نیت مغرب سے ایک منٹ پہلے بھی کی جاسکتی ہے۔ لیکن جس نے دوپھر کا کھانا کھایا ہو وہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔

## نیت کا وقت کب تک؟

ظہر کے بعد	ظہر سے پہلے (بھول گیا/ اطلاع نہ تھی)	ظہر سے پہلے (جان بوجھ کر کچھ دیر پہلے بھی صحیح ہے)	ازان صبح سے پہلے Late کیا)	روزے کی اقسام
✓  (مغرب سے کچھ دیر پہلے بھی صحیح ہے)	✓		✓	۱۔ مستحب روزہ
				۲۔ واجب معین روزہ مثال: • ماہ رمضان کا روزہ • نذرِ معین کا روزہ
✗	✓	✗	✓	۳۔ واجب غیر معین روزہ مثال: • قضا روزہ • نذر غیر معین کا روزہ

معین = جس کا وقت Fix ہے      غیر معین = جس کا وقت Fix نہیں ہے  
 ✓ = نیت ہو سکتی ہے، روزہ صحیح ہے      ✗ = نیت نہیں ہو سکتی وقت گذر گیا

## اہم سوال ۱:

۲۹ رشعبان کا دن ختم ہوا۔ چاند کا پتہ نہیں ہے کہ ہوا یا نہیں۔ میں کیا کروں؟

جواب: • اگر چاند نظر آجائے تو کل پہلی ماہ رمضان ہے۔ روزہ رکھنا واجب ہے۔

• اگر چاند نظر نہ آئے تو کل ۳۰ رشعبان ہے۔ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔

• اگر شک ہو کہ پتہ نہیں چاند نظر آیا یا نہیں تو بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔

سوال ۲: شک کی صورت میں روزہ نہیں رکھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ چاند ہو گیا تھا۔ پھر؟

جواب: آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہاں اس روزے کی قضا آپ کو رکھنا ہوگی۔

سوال ۳: میں اس شک والے دن روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کس نیت سے رکھوں؟ کیا یہ نیت کر سکتا ہوں کہ اگر ماہ رمضان ہے تو اس کا روزہ ورنہ شعبان کا؟

جواب: یہ نیت نہ کریں بلکہ اگر آپ پر قضا روزہ ہے تو اس کی نیت سے ورنہ منتخب روزے کی نیت سے روزہ رکھیں۔

فائدہ:

اس صورت میں یہ فائدہ ہوگا کہ بعد میں اگر پتہ چلا کہ چاند نظر آگیا تھا تو یہی روزہ خود مخدود ماہ رمضان کا پہلا روزہ مان لیا جائے گا۔

سوال: میں نے قضا یا مستحب کی نیت سے روزہ تو رکھ لیا مگر دن میں پڑتے چلا کہ چاند نظر آگیا تھا اور آج ماہ رمضان کی چیلی تاریخ ہے۔ میں کیا کروں؟

جواب: بس اپنی نیت کو ماہ رمضان کے روزے کی طرف پھیر دیں۔ یہی کافی ہے۔

## میطلاتِ روزہ

(روزے کو توڑنے والی چیزیں)

### فہرست:

- ۱۔ کھانا پینا۔
- ۲۔ غبار حلق تک پہنچانا۔
- ۳۔ اللہ، انبیاء اور مخصوصین سے جھوٹ منسوب کرنا۔
- ۴۔ پورا سر پانی میں ڈبوانا۔
- ۵۔ جان بوجھ کر قے کرنا (یعنی الٹی کرنا)۔
- ۶۔ استمنا کرنا (Mastrurbation)۔
- ۷۔ جماع کرنا (جنسی تعلقات قائم کرنا)۔
- ۸۔ جنابت کی حالت پر اذان صبح تک باقی رہنا۔
- ۹۔ خاتون کا حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد اذان صبح سے پہلے عسل نہ کرنا۔
- ۱۰۔ کسی Liquid یعنی بہنے والی چیز سے حفظ یا انتہا کرنا۔

## مبطلاتِ روزہ۔ کچھ تفصیل

- ا۔ کھانا پینا: • یعنی طلاق سے نئے اتنا رہا  
 • طلاق: جہاں سے "خ" کی آواز لکھتی ہے  
 توجہ: صرف زبان پر کچھ رکھ کر ذاتِ القہ بچھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا

### مختلف Cases

روزہ باطل ہے	دانتوں میں کچھ پھنسا رہ گیا تھا، اسے جان بوجھ کرنگل لیا۔	(i)
روزہ صحیح ہے	بھول گیا اور کچھ کھا لیا یا پی لیا۔	(ii)
روزہ صحیح ہے	جان بوجھ کر تھوک نگل لیا۔	(iii)
روزہ صحیح ہے	مزیدار کھانا دیکھا، منہ میں پانی جمع ہو گیا اور اسے جان بوجھ کر پی لیا۔	(iv)
روزہ صحیح ہے	منہ میں آنے سے پہلے نگل لیا  <i>بلغم</i>	(v)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• روزہ صحیح ہے</li> <li>(آیت اللہ سیستانی)</li> </ul>	منہ میں آنے کے بعد نگل لیا	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• روزہ احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے۔</li> <li>(آیت اللہ خوئی، امام خمینی، آیت اللہ خامنہ ای)</li> </ul>		

سوال ۱: کھاؤں گا پیوں گا نہیں تو کمزوری آجائے گی۔ روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟  
 جواب: بھی نہیں۔

سوال ۲: کمزوری بہت بڑھ جائے گی۔ ناقابل برداشت کمزوری؟  
 جواب: پھر روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں قضا رکھیں۔

### انجکشن کا استعمال

جاگز ہے	۱۔ بیماری میں دوا کے لیے:
جاگز ہے	۲۔ جسم کے کسی حصے (Organ) کو سن کرنے کے لیے:
جاگز نہیں	۳۔ غذائی کمی یا بھوک کے احساس کو ختم کرنے کے لیے:

### ڈرپ کا استعمال

چاہے دوا کے لیے ہو  
 یا

دونوں صورتوں میں  
 جائز نہیں ہے

غذائی کمی دور کرنے کے لیے

### مسوڑھوں سے خون

سوال ۳: مسوڑھے سے خون نکل آیا توجہ نہیں رہی اور نکل لیا۔ روزہ صحیح ہے یا نہیں؟

جواب: اگر توجہ نہیں تھی اور بے اختیار نکل لیا تو روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔

سوال ۳: مسوز ہے سے نکلنے والا خون تھوک میں مل کر ختم ہو گیا۔ کیا اسے انگلا جاسکتا ہے؟

جواب: بھی ہاں۔ اس کا انگنا روزے کو باطل نہیں کرتا۔

سوال ۵: میرے سامنے ایک روزہ دار بھولے سے کھانا کھا رہا ہے۔ کیا میرے لیے اسے روکنا ضروری ہے؟

جواب: بھی نہیں۔

غوارے کرنا (Gargles):

جاائز ہے لیکن حلق سے نیچے پانی گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔

دانتوں کا علاج

سوال ۶: Dentist (دانتوں کا ڈاکٹر) ماں رمضان میں دانتوں کی Filling اور دوسرا متعلقہ کام کر سکتا ہے؟

جواب: بھی ہاں۔

سوال ۷: اور مریض کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟

جواب: اگر مریض مطمئن ہے کہ خون، پانی یا اور کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں جائے گی تو وہ روزے کے دوران علاج کرو سکتا ہے ورنہ نہیں۔

ٹوٹھ پیست (Tooth Paste) کا استعمال کوئی حرج نہیں۔ بس Paste نگل نہیں سکتے۔

Dental Floss یا Tooth Pick کا استعمال

جاائز ہے۔ خیال اسی چیز کا رکھنا ہے کہ کوئی چیز نگل نہیں سکتے یعنی حلق سے نیچے کچھ نہیں جانا چاہیے۔

(آنکھوں میں ڈالنے کے قطروں) اور Eye Drops Nasal Drops (ناک میں ڈالنے کے قطروں) کا استعمال اس میں بھی معیار وہی ہے۔ اگر دوا حلق کے نیچے نہیں پہنچ رہی تو استعمال جائز ہے۔

### عطر اور Perfumes کا استعمال

عطر اور Perfumes کا استعمال نہ صرف روزے کو باطل نہیں کرتا بلکہ یہ روزہ دار کے لیے مستحب ہے۔

### شامپو Shampoo اور صابن کا استعمال

جائز ہے۔

بالوں میں تیل ڈالنا یا کوئی کریم لگانا جائز ہے۔

### Lipstick کا استعمال

حلق کے نیچے اسے بھی نہیں جانا چاہیے۔ ویسے جائز ہے۔

### Blood Donation یا خون کا عطیہ دینا

جائز ہے اگر کمزوری کا باعث بنے تو مکروہ ہے۔ حرام بہر حال نہیں ہے۔

کلی کرنا

کلی کر رہا تھا۔ بے اختیار پانی حلق کے نیچے چلا گیا۔ روزہ باطل ہے سوائے اس کے کہ:

- بھول گیا تھا کہ روزے سے ہے۔
- واجب نماز کے وضو کے لیے کلی کر رہا تھا۔

## ۲۔ غبار حلق تک پہنچانا:

- گاڑھا غبار حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔
- اس سے فرق نہیں پڑتا کہ غبار کس چیز کا ہے۔

☆ مثلاً کسی ایسی چیز کا ہے جسے کھانا جائز ہے جیسے آٹا

☆ یا ایسی چیز کا ہے جسے کھانا جائز نہیں ہے جیسے مٹی

سوال ۱: غبار ہے مگر گاڑھا نہیں ہے۔ اس کے حلق تک پہنچانے سے بھی روزہ باطل ہو گا؟

جواب: جی نہیں۔ (امام خمینی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہ ای)  
احتیاط واجب کی بناء پر باطل ہے۔ (آیت اللہ خویی)

توجہ: ان صورتوں میں روزہ باطل نہیں ہو گا:

(i) غبار حلق تک نہ پہنچے (صرف منہ میں داخل ہو)

(ii) جان بوججد کرنے پہنچایا ہو

(iii) بھول گیا ہو کہ روزے سے ہے

(iv) شک کرے کہ حلق تک پہنچایا نہیں

سوال ۲: میں آئے کی چکلی میں کام کرتا ہوں اور آئے کا گاڑھا غبار حلق تک پہنچتا ہے۔ کیا میں روزے کی حالت میں یہ کام کر سکتا ہوں؟

جواب: Mask یا اس جیسی کوئی اور چیز کا استعمال کر کے کام کریں تاکہ غبار حلق تک نہ پہنچے ورنہ روزہ باطل ہو گا۔

## سگریٹ وغیرہ کا استعمال

سگریٹ، سیگار، حنے اور پاپ جس طرح استعمال کئے جاتے ہیں اس سے بھی روزہ ثبوت جاتا ہے۔

### Inhaler کا استعمال

سوال ۳: دمہ کا مریض ہوں۔ Inhaler استعمال کرنا مجبوری ہے۔ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب: • جی نہیں۔ اس صورت میں روزہ صحیح رہے گا۔

(آیت اللہ خوئی، امام خمینی، آیت اللہ سیستانی)

• اگر Inhaler یا اپرے کے بغیر ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں تو احتیاط واجب کی بناء پر قضا رکھیں۔  
(آیت اللہ خامنہ ای)

### Balm کا استعمال

کوئی بات نہیں۔ روزہ صحیح رہے گا۔

### Steam (بھانپ) لینا

سوال ۴: علاج کے لیے بھانپ لینا روزے کو باطل کر دیتا ہے؟

جواب: • گاز سے بخارات (Concentrated Vapours) حلق سے نیچے نہیں جانے چاہیے۔

• اگر یہ بخارات من میں جمع ہو کر پانی کی شکل اختیار کر جائیں تو انہیں بھی نگلنے کی اجازت نہیں ہے۔

### Bathroom میں بننے والے بخارات

ایسے بخارات اگر سانس کے ساتھ چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

### بوو اور گاڑیوں کا دھواں

اگر اطمینان تھا کہ یہ دھواں حلق تک نہیں پہنچ گا اور اتفاق سے پہنچ گیا تو کوئی بات نہیں۔ روزہ صحیح ہے۔

۳۔ اللہ، انبیاء اور مخصوصین سے جھوٹ منسوب کرنا:

روزہ ہو یا نہ ہو: (i) جھوٹ بولنا حرام ہے۔

(ii) کسی سے جھوٹی بات منسوخ کرنا بھی حرام ہے۔

(iii) مخصوصیت کے کام جو ایسا امداد کرنے کا گناہ

اور بھی زیادہ ہے۔

**سوال ۱:** ان میں سے روزہ کس سے ٹوٹ جاتا ہے؟

الله جواب: مخصوص کرنے سے جھوٹی پات مفہوم کرنے

انبیاء علیہم السلام سے روزہ نوٹ جاتا ہے۔

14 مخصوصین علیهم السلام

جھوٹ منوب کرنے کے انداز:

لکھنا، اشارہ کرنا، کسی سوال کے جواب میں،

کسی کی جھوٹی بات کی تائید کرنا وغیرہ۔

٢٣

\* جانتے ہو جھٹے جھوٹ منسوب کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔

\* سچ سمجھتے ہوئے نقل کیا بعد میں پتے چلا کہ جھوٹ تھا: روزہ صحیح ہے۔

\* نہیں معلوم ہے بے پا جھوٹ: ایسی بات نقل کرنا ہوتا ہوا لے کے

ساتھ نقل کریں۔

**سوال ۲:** حالت روزہ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ مگر میری قرأت خراب ہے۔

میرا کوئی ارادہ خدا سے غلط بات منسوب کرنا نہیں ہوتا۔ مجھے یہ تبت

حصول ثواب ہوتی ہے۔ کما میر اروزہ متاثر ہوگا؟

**حوالہ:** جی نہیں لیکن قرأت بہتر کرنے کی کوشش کرس۔

### ۴۔ پورا سر پانی میں ڈبونا:

جان بوجھ کر پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔

توجہ: ان صورتوں میں روزہ باطل نہیں ہوتا:

(i) بھولے سے ایسا ہو گیا۔

(ii) پورا سر نہیں ڈبویا کچھ حصہ ڈبویا۔

(iii) آدھا سر ایک بار اور آدھا سر دوسرا بار ڈبویا۔

(iv) بے اختیار پانی میں گر گیا اور پورا سر ڈوب گیا۔

(v) کسی اور نے زبردستی ڈبو دیا۔

(vi) ٹک کرے کہ پورا سر ڈوبایا نہیں۔

(vii) اسی طرح بلکہ یا Shower کے نیچے سر دھونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔

(viii) اگر غوط خوری کا لباس پہن کر جو سر کو

بھی Cover کرتا ہے۔

یا

Swiming Cap

یا

آب دوز (Submarine) میں سفر کیا جائے

نوٹ: آیت اللہ سیستانی کے نزدیک روزے کی حالت میں پورا سر پانی میں ڈبوانا شدید مکروہ ہے۔ یعنی اس سے ثواب کم ہو جاتا ہے لیکن نہ یہ حرام ہے اور نہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔

۵۔ قے کرنا یا الٹی کرنا (Vomitting):

- جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چاہے بیماری کی وجہ سے الٹی کرنے پر مجبور ہو۔ بے اختیار خود سے الٹی ہو جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔
- اگر بھول جائے کہ روزے سے ہے اور الٹی کر دے تو بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔

سوال ۱: روزے کی حالت میں جان بوجھ کر ڈکارنے کی اجازت ہے؟  
 جواب: جی ہاں۔ لیکن اگر کوئی چیز من میں آجائے تو جان بوجھ کر واپس نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔

## ۶۔ استمنا کرنا (Masturbation):

سوال ۱: اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: جماع سے بہت کر اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا جس سے خود کی منی خارج ہو۔

نوٹ: اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی اور چیز یا شخص کی مدد لی یا نہیں۔

توجه: • روزہ نہ ہوتب بھی یہ عمل حرام ہے۔

• اس عمل کی وجہ سے غسل جاتب بھی کرنا پڑتا ہے۔

• حالت روزہ میں اس عمل کے انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔

سوال ۲: کیا صرف ناحرم کو دیکھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟

جواب: حرام نگاہ بہر حال حرام ہے۔ مگر صرف دیکھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔

سوال ۳: شہوت (Lust) کو بھڑکانے والی فلمیں (Movies) دیکھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟

جواب: • ایسی فلمیں دیکھنا ہر صورت میں حرام ہے چاہے ماہ رمضان ہو یا کوئی دوسرا مہینہ۔

• اگر استمنا کے ارادے سے دیکھا جائے اور منی خارج ہو جائے تو روزہ باطل ہو گا۔

سوال ۴: اگر روزے کی حالت میں بے اختیار منی خارج ہو جائے مثلاً نیند کی حالت میں تو کیا پھر بھی روزہ باطل ہو گا؟

جواب: بھی نہیں۔

سوال ۵: کیا ایسی صورت میں روزہ دار کے لیے فوراً غسل کرنا ضروری ہوگا؟  
 جواب: بھی نہیں۔ بس نماز کے لیے غسل ضروری ہوگا۔ البتہ جلد غسل کرنا  
 بہتر تو ہے۔

سوال ۶: روزہ دار کو پتہ ہے کہ سویا تو مسی خارج ہو جائے گی۔ کیا پھر بھی وہ  
 سوکتا ہے؟  
 جواب: جی ہاں پھر بھی سوکتا ہے۔

## ۷۔ جماع کرنا یعنی جنسی تعلقات قائم کرنا:

- اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔
- جماع کے علاوہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے دیگر لذتوں کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
- منی کے علاوہ جو دیگر رطوبتیں خارج ہوتی ہیں، ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔

سوال ۱: شوہر روزے سے نہیں ہے جبکہ بیوی کا واجب روزہ ہے۔ کیا شوہر بیوی کو جماع پر مجبور کر سکتا ہے؟

جواب: جی نہیں۔

سوال ۲: نیا شادی شدہ جوڑا ماہ رمضان میں ہنی مون کے لیے کسی اور ملک روانہ ہوا۔ کیا یہ دن میں ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟

- اگر دس دن سے کم کا قیام ہے تو مسافر کے احکام Apply ہوں گے یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس صورت میں دن میں ازدواجی تعلقات قائم تو کے جاسکتے ہیں مگر یہ مکروہ ہے۔
- اگر دس دن یا اس سے زیادہ کا قیام ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے ازدواجی تعلقات قائم کرنا حرام ہو گا۔

۸۔ جتابت کی حالت پر اذان صبح تک باقی رہتا:

- جب ہونے کے بعد اگر اذان صبح سے پہلے پہلے غسل نہ کیا جائے یا اگر اس کی ذمے داری تینم ہے اور تینم نہ کیا جائے تو بعض صورتوں میں اس کا روزہ باطل ہو گا۔

**وضاحت:**

- اگر جان بوجھ کر غسل / تینم نہ کرے تو اگر:

روزہ باطل ہے۔	<span style="font-size: 2em;">★</span> <span style="font-size: 1.5em;">روزہ ماہ رمضان کا ہے</span> <span style="font-size: 1.5em;">یا</span> <span style="font-size: 2em;">★</span> <span style="font-size: 1.5em;">ماہ رمضان کی قضا کا ہے</span>
---------------	---

☆ متحب روزہ ہے: روزہ صحیح ہے۔

سوال ۱: اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں غسل جتابت کرنا بھول جائے اور کچھ دنوں بعد اسے یاد آئے تو؟

قضارکے	<span style="font-size: 2em;">★</span> <span style="font-size: 1.5em;">ان تمام روزوں کی</span> <span style="font-size: 1.5em;">لور</span> <span style="font-size: 2em;">★</span> <span style="font-size: 1.5em;">تمام نمازوں کی بھی</span>
--------	--

سوال ۲: ماہ رمضان ہے۔ زید جب ہو گیا۔ جانتا ہے کہ اگر سو گیا تو اذان صبح سے پہلے بیدار نہیں ہو گا۔ کیا سوکتا ہے؟

جواب: • جی نہیں۔ اس پر واجب ہے کہ پہلے غسل کرے پھر سنئے۔  
 • اگر غسل کئے بغیر سو گیا اور اذان صبح کے بعد بیدار ہوا تو روزہ باطل ہو گا۔

**سوال ۳:** ماہ رمضان کی رات ہے۔ زید جب نہیں ہے۔ سو گیا آنکھ کھلی تو اذان صبح ہو چکی تھی اور وہ نیند میں جب ہو چکا تھا۔ نہیں پتہ کہ اذان صبح سے پہلے متی خارج ہوئی یا بعد میں۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟  
**جواب:** چاہے اذان صبح سے پہلے جب ہوا ہو یا بعد میں اس کا روزہ صبح ہے۔

**سوال ۴:** جان بوجھ کر غسل کو Delay کیا یہاں تک کہ اذان صبح کا وقت اتنا کم رہ گیا کہ اب غسل تو نہیں ہو سکتا کیا کرے؟

**جواب:** اس نے گناہ کیا۔ لیکن اس پر واجب ہے کہ تمیم کر کے روزہ رکھے۔

**سوال ۵:** کیا اسی تمیم سے نماز فجر بھی پڑھ سکتا ہے؟

**جواب:** جی نہیں۔ جب پانی موجود ہے اور وقت بھی ہے تو غسل کرنا ضروری ہوگا۔

### غسل مس میت اور روزہ

- غسل مس میت یعنی وہ غسل جو میت کو چھونے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔
- اگر کسی پر غسل مس میت واجب ہے تو بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔
- نماز پڑھنے کے لیے غسل مس میت بہر حال ضروری ہے۔

۹۔ خاتون کا حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد  
اذان صبح سے پہلے عسل نہ کرنا:

اگر کوئی خاتون اذان صبح سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے  
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ:-

الف) اذان صبح سے پہلے پہلے عسل کرے۔  
] وقت کم ہے، عسل ممکن نہیں ہے تو تم کرے۔

ب) اس دن کا روزہ رکھے۔

سوال ۱: کیا اس تیم سے نجیر کی نماز بھی پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب: بھی نہیں۔ پانی ہے تو عسل کرنا ہو گا

سوال ۲: تیم بھی نہ کرے تو کیا روزہ باطل ہو گا؟

جواب: بھی ہاں۔ ماہ رمضان اور اس کی قضا کا روزہ باطل ہو گا۔ مستحب  
روزہ بغیر تیم کے بھی صحیح ہے۔

سوال ۳: اگر خاتون دن میں کسی وقت پاک ہو تو؟

جواب: اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتی، قفار کرے۔

سوال ۴: اگر روزے کے دوران حیض یا نفاس کی حالت شروع ہو جائے تو؟

جواب: روزہ باطل ہے چاہے مغرب بہت نزدیک ہو۔ اس روزے کی قضا  
رکھے۔ واضح رہے کہ اس صورت میں خاتون پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

سوال ۵: خاتون اذان صبح سے پہلے پاک تو ہو گئی لیکن وقت اتنا کم ہے کہ:  
عسل ہو سکتا ہے نہ تیم؟

جواب: پھر بغیر عسل و تیم کے بھی روزہ صحیح ہے۔

سوال ۶: اذان صبح کے بعد پتہ چلا کہ اذان سے پہلے ہی پاک ہو چکی تھی؟  
 جواب: اگر اب تک روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام نہیں کیا تو روزہ صبح  
 ہے ورنہ باطل ہے بعد میں قفار کھے۔

سوال ۷: اپنی ماہانہ عادت کو تبدیل کرنے کے لیے کیا خواتین Tablets  
 وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہیں؟

جواب: اگر یہ آن کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو جائز ہے۔

### استحاضہ اور روزہ

اس صورت میں خاتون اگر واجب ہونے والے تمام عمل انعام  
 دے تو اس کے روزے بالکل صحیح ہیں۔

نوت: اس کی تفصیل توضیح المسائل میں موجود ہے۔

### ۱۰۔ کسی Liquid یعنی بہنے والی چیز سے حصہ (Enema) لیتا:

- حصہ (Enema) یعنی قبض (Constipation) کو دور کرنے کے لیے (مقدار) پاخانے کے مقام سے دوائی کو داخل کرنا۔ یہ دوائی ٹھوس (Solid) بھی ہوتی ہے اور مائع (Liquid) بھی۔
- چاہے بیماری کی وجہ سے استعمال پر مجبور ہو، کسی مائع (Liquid) یعنی بہنے والی چیز سے حصہ لینا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔
- کسی ٹھوس چیز سے حصہ لینا روزے کو باطل نہیں کرتا۔

توجه:

## کچھ کلی احکام

۱۔ اگر مظلات روزہ میں سے کوئی بھی بھولے سے انجام دیا جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔

۲۔ اگر کوئی زبردستی کرے مثلاً کسی کو کچھ کھلا دے یا زبردستی پانی میں دھکا دے دے اور پورا سر پانی میں ڈوب جائے تو بھی روزہ باطل نہیں ہوتا  
لیکن

اگر مجبور کرے کہ روزہ دار خود اس کام کو انجام دے مثلاً دھمکی دے کہ کھانا کھاؤ ورنہ گولی مار دوں گا اور رونہ دار پستول کی گولی کھانے کی بجائے اپنے ہاتھ سے کھانا کھائے تو اس نے بالکل صحیح کام کیا اور کچھ گناہ نہیں کیا لیکن روزہ بہر حال باطل ہو گا اور بعد میں قضا رکھنا ہوگی۔

۳۔ اگر بھولے سے کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اور پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ تو باطل ہو ہی گیا ہے جان بوجھ کر کھا پی لیا یا کوئی اور روزے کے کو باطل کرنے والا کام کیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔

توجہ:

اگر ماہ رمضان میں بغیر کسی عذر کے روزے کو باطل کر لیا تو بھی مغرب تک کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی اور ایسا کام کرنے کی اجازت ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے۔

## ماہِ رمضان کا کفارہ

\* جان بوجھ کر ماہِ رمضان کا روزہ نہ رکھنے یا توڑنے کی صورت میں جو جرم ادا کرنا ہوتا ہے اسے کفارہ کہتے ہیں۔

سوال ۱: کفارے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟

جواب: الف) ایک غلام آزاد کرنا

یا

ب) 60 روزے رکھنا جن میں سے 31 پے درپے رکھنا ضروری ہیں

یا

ج) 60 مومن فقیروں کو کھانا کھلانا

سوال ۲: آج کل تو دو یہ غلام نہیں پائے جاتے جن کو شرعاً غلام کہا جائے؟

جواب: صحیح بات ہے۔ اس لیے باقی دو Options ہی باقی رہیں گے۔

توجه: اگر روزہ کسی ایسی چیز سے توڑا جو دو یہی حرام ہے مثلاً شراب پی کریا زنا کر کے، تو تینوں کفارے واجب ہوں گے۔

سوال ۳: 60 فقیروں کو کھانا کھلانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: الف) کھانا تیار کر کے 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھلایا جائے۔

یا

ب) 60 فقیروں کو 750 گرام یعنی تقریباً 3 پاؤ آٹا یا چاول دے دیا جائے۔

نوٹ: •

ان فقراء کو رقم دینے سے کام نہیں چلے گا۔  
اگر رقم دینی ہے تو انھیں پابند کرنا ہو گا کہ وہ آٹا وغیرہ ہی  
لیں سکے۔

•

یہ اطمینان بھی ضروری ہے کہ وہ پابندی کریں گے۔  
سوال ۴: کیا 60 کا عدد پورا کرنا ضروری ہے؟ ایک ہی فقیر کو 60 کفارے  
دے دینے سے ذمے داری پوری ہو جائے گی؟

جواب: بھی نہیں 60 کا عدد پورا ہونا ضروری ہے۔

سوال ۵: کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟

جواب: روزہ نہیں رکھا یا رکھ کے توڑ دیا

☆ یہ کام جان بوجھ کر کیا

اور

☆ اپنے اختیار سے کیا۔ کسی نے

مجبور نہیں کیا تھا۔

اور

☆ کوئی شرعی عذر (Excuse) مثلاً

بیماری وغیرہ بھی نہیں تھی۔

جب Case یہ  
ہے تو روزے  
کی قضا بھی رکھنا  
ہو گی اور کفارہ  
بھی دینا ہو گا۔

توجہ:

اگر علم ہی نہیں تھا کہ اس کام کو انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا  
ہے تو بھی روزہ باطل ہے اور بعد میں قضا رکھنا واجب ہے مگر کفارہ  
واجب نہیں ہے سوائے اس کے کہ:

- ☆ مسئلہ سمجھنے میں کوتاہی کی تھی اور انجام دیتے وقت اس بات کا تھوڑا بہت ہی کمی اندازہ تھا کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا
- ☆ اللہ اور معصومین کی طرف کسی جھوٹی بات کو کو منسوب کیا اور پتہ نہیں تھا کہ اس طرح روزہ ثبوت جاتا ہے۔

ان دو صورتوں میں روزہ باطل ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہے

### اسی سے متعلق کچھ اور مسائل

۱۔ ایک دفعہ مبلات روزہ میں سے کوئی کام انجام دیا، روزہ باطل ہو گیا اور کفارہ واجب ہو گیا۔

سوال: اگر واپس کوئی ایسا کام انجام دیا جو مبلات روزہ میں شامل ہے تو کیا کفارہ بھی دگنا (double) ہو جائے گا؟

جواب: بھی نہیں۔ سوائے جماع کے۔ یعنی جتنی بار جنسی تعلقات قائم کئے اتنی بار کفارہ ادا کرنا ہو گا۔

سوال نمبر ۲: روزہ توڑ کر دوسرے شہر سفر پر چلا گیا۔ کیا اس سے کفارہ ختم ہو جائے گا؟

جواب: بھی نہیں۔

سوال نمبر ۳: کیا کفارہ فوراً ادا کرنا ضروری ہے؟

جواب: بھی نہیں۔ مگر اتنا Delay بھی نہ کریں کہ کوتاہی شمار ہو۔ یعنی اینا نہ لگے کہ اسے تو کفارے کی پرواہی نہیں ہے۔

سوال نمبر ۴: ایک سال گذر گیا۔ میں نے کفارہ ادا نہیں کیا۔ اس تاریخ  
کی وجہ سے تو کفارے میں مزید کچھ اضافہ نہیں ہوگا؟

جواب: جی نہیں۔

سوال نمبر ۵: مجھ پر کفارہ واجب ہے مگر نہ میں 60 روزے رکھ سکتا ہوں اور نہ  
ہی 60 فقیروں کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ میں کیا کروں؟

جواب:

- جتنے فقیروں کو کھلا سکتے ہیں کھلائیں اور **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** کہہ کر  
استغفار کریں۔
- اگر ایک فقیر کو بھی نہیں کھلا سکتے تو صرف **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** کہہ  
کر استغفار کریں۔
- بعد میں جب ممکن ہو اس کفارے کو مکمل کریں۔

سوال نمبر ۶: غیر سید کا کفارہ سید کو دیا جاسکتا ہے؟

جواب: دینا جائز تو ہے مگر بہتر ہے کہ یہ نہ کریں۔

## ماہ رمضان کا قضا روزہ توڑنے کا کفارہ

ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھا:

- ظہر سے پہلے پہلے اجازت ہے۔ روزہ توڑنا  
چاہے تو توڑ سکتا ہے۔  
لیکن
  - ظہر کے بعد یہ روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔
  - توڑنے کی صورت میں کفارہ بھی دینا ہوگا۔
- توجه: ۱۔ اس ماہ رمضان میں قضا ہونے والے روزے اگلے ماہ رمضان سے پہلے رکھنا ضروری ہیں۔

۲۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ قضا روزہ ظہر سے پہلے توڑا جاسکتا ہے۔ یہ صرف اس صورت میں ہے جب وقت میں گنجائش ہو مثلاً ۵ قضا روزے باقی ہیں اور ماہ رمضان کے آنے میں بھی 20 دن باقی ہیں۔  
لیکن

اگر 5 قضا روزے باقی ہیں اور 5 ہی دن ماہ رمضان کے آنے میں باقی ہیں تو ظہر سے پہلے بھی قضا روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔

سوال: میں کسی مرحوم کے قضا روزے اجرت پر رکھ رہا ہوں۔ کیا میرے لیے بھی سلسلہ تہی ہے کہ میں ظہر کے بعد روزہ نہیں توڑ سکتا؟

جواب: جی نہیں۔ آپ ظہر کے بعد بھی روزہ توڑ سکتے ہیں۔

سوال ۲: قضا روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟

جواب: دس مومن فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھانا

یا

انھیں 750 گرام یعنی تین پاؤ آٹا یا چاول وغیرہ دینا

اگر یہ ممکن نہیں ہے تو 3 روز سے پہلے درپے رکھے۔

•

•

•

نوٹ:

• ان فقراء کو رقم دینے سے کام نہیں چلے گا۔

• اگر رقم دینی ہے تو انھیں پابند کرنا ہوگا کہ وہ آٹا  
وغیرہ ہی لیں گے۔

• یہ اطمینان بھی ضروری ہے کہ وہ پابندی کریں گے۔

• 10 فقیروں کا عدد پورا کرنا ضروری ہے ایک فقیر کو

10 کفارے نہیں دیئے جاسکتے۔

## تاخیر (Delay) کرنے کا کفارہ

- جیسا کہ بیان ہوا، اس ماہ رمضان میں قضا ہونے والے روزے اگلے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے رکھنا ضروری ہیں۔
- زید بیمار تھا۔ ماہ رمضان کے ۵ روزے نہیں رکھ سکا۔ ماہ رمضان کے بعد:
- ☆ زید ٹھیک ہو گیا مگر قضا روزے نہیں رکھے بیہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آگیا۔

یا

- ☆ اگلے ماہ رمضان کے آنے میں ۵ دن رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ ۵ ہی روزے قضا تھے۔ زید روزے رکھنا بھی چاہتا ہے مگر بیمار پڑ گیا اور نہ رکھ سکا۔

ان دونوں صورتوں میں زید پر ضروری ہے کہ اب قضا کے علاوہ تاخیر کا کفارہ بھی ادا کرے۔

تجھے: (i) ہم نے زید کی بیماری کا تذکرہ صرف مثال کے طور پر کیا ہے۔ بیماری نہ ہو کوئی اور Problem ہو مثلاً سفر وغیرہ تو بھی مسئلہ یہی رہے گا۔

(ii) جان بوجہ کر بھی کسی نے روزہ چھوڑا یا توڑا تو اس کی ذمے داری ہے کہ قضا تو اگلے ماہ رمضان سے پہلے ہی انجام دے دردہ اسے بڑے کفارے کے ساتھ تاخیر کا کفارہ بھی دینا ہو گا۔

سوال ۱: تاخیر کرنے کا کفارہ کتنا ہے؟

جواب: ہر روزے کے بدے ۷۵۰ گرام یعنی تین پاؤ آٹا یا چاول وغیرہ کسی مومن فقیر کو دے۔

- نوبت: ۰ ان فقراء کو رقم دینے سے کام نہیں چلے گا۔
- ۰ اگر رقم دینی ہے تو انھیں پابند کرنا ہوگا کہ وہ آٹا وغیرہ ہی لیں گے۔
- ۰ یہ اطمینان بھی ضروری ہے کہ وہ پابندی کریں گے۔
- ۰ ایک ہی شخص کو کئی دنوں کا کفارہ دیا جاسکتا ہے۔
- ۰ تاخیر کا کفارہ بس ایک بار لگتا ہے۔ اس کے بعد اگر مزید ایک سال کی تاخیر کر دی جائے تو تاخیر کے کفارے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔

## 福德یہ یعنی ”بدل“ یا ”عوض“

سوال: کس کا بدل؟ کس کا عوض؟

جواب: روزہ نہ رکھنے کا بدل یا عوض۔ اس کی کچھ شرائط ہیں:

福德یہ کون دیتا ہے؟

۱۔ ضعیف مرد یا خاتون۔

۲۔ زیادہ پیاس کے مرض میں بنتا افراد۔

۳۔ حاملہ خاتون۔

۴۔ بچے کو دودھ پلانے والی خاتون۔

۵۔ وہ شخص جس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور بیماری اگلے ماہ رمضان تک طول پکڑ گئی۔

## پچھے تفصیل

### ۱۔ ضعیف مرد یا خاتون:

وہ خواتین و حضرات جو پڑھا پے کی وجہ سے:

- روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے  
ان پر روزہ رکھنا واجب  
نہیں ہے۔ یہ ہر روزے
- روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے  
کے بدلتے فدیہ دیں گے۔  
} یا

**توجہ:** • سال کے دوران کسی اور موسم میں جبکہ موسم ٹھنڈا ہے، دن چھوٹے  
ہیں اور روزہ رکھنا ممکن ہو تو پھر قضا بھی رکھنا واجب ہو گا ورنہ نہیں۔

### ۲۔ زیادہ پیاس لگنے کے مرض میں بنتا افراد:

وہ افراد جو زیادہ پیاس لگنے کے مرض میں بنتا ہیں اور اس وجہ سے:

- روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے  
ان پر بھی روزہ رکھنا  
واجب نہیں ہے۔ یہ بھی  
} یا
- روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے  
ہر روزے کے بدلتے  
فدیہ دیں گے

**توجہ:** • ان کے لیے بھی اگر سال کے دوران کسی اور موسم میں روزہ رکھنا  
ممکن ہو تو قضا رکھنا واجب ہو گی۔

### ۳۔ حاملہ خاتون:

جن کا وضع حمل (Delivery) کا وقت قریب ہے اور روزہ رکھنا:

- ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے خود اپنے لیے
- ہر روزے کے بد لے فدیہ دیں۔ یا
- بعد میں جب روزہ رکھنے کے قابل بچے کے لیے نقصان دہ ہے

### ۴۔ بچے کو دودھ پلانے والی خاتون:

جن کا دودھ کم ہو، نہ کوئی دوسری دودھ پلانے والی خاتون

Available ہو، نہ ہی ذبیعے کا دودھ بچے کے لیے مناسب ہو اور

آن کا روزہ رکھنا:

- ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے خود اپنے لیے
- ہر روزے کے بد لے فدیہ دیں۔ یا
- بعد میں جب روزہ رکھنے کے قابل بچے کے لیے نقصان دہ ہے

### ۵۔ بیمار:

- |  |   |
|--|---|
| ان پر قضا واجب نہیں<br>ہے۔ یہ بس ہر روزے<br>کے بد لے فدیہ دیں<br>گے۔ | وہ شخص جس نے بیماری کی وجہ سے<br>روزہ نہیں رکھا<br>اور<br>اس کی بیماری اگلے ماہ رمضان<br>تک طول پڑ گئی۔ |
|--|---|

توجه:

(i) اگر کسی اور وجہ سے مثلاً سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور سارا سال سفر ہی میں رہا یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آگیا تو اس پر قضاہی واجب ہے۔ اس پر فدیہ واجب نہیں ہوگا۔

(ii) اسی طرح اگر عذر بدل جائے مثلاً یماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا تھا۔ بعد میں طبیعت اچھی ہو گئی اور اس کی جگہ سفر نے لے لی یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آگیا۔ اس صورت میں بھی قضاہی واجب رہے گی اور فدیہ واجب نہیں ہوگا۔

سوال ۱: فدیہ کتنا ہوتا ہے؟

جواب: ہر روزے کے بدلتے 750 گرام یعنی تین پاؤ آٹا یا چاول وغیرہ کسی موسم فقیر کو دے۔

نوت: • ان فقراء کو رقم دینے سے کام نہیں چلے گا۔  
• اگر رقم دینی ہے تو انھیں پابند کرنا ہوگا کہ وہ آٹا وغیرہ ہی لیں گے۔

- یہ اطمینان بھی ضروری ہے کہ وہ پابندی کریں گے۔
- ایک ہی شخص کو کئی دنوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔
- فدیہ بس ایک بار لگتا ہے۔ اس کے بعد اگر مزید ایک سال کی تاخیر کر دی جائے تو فدیے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔

## قضايا روزے سے متعلق کچھ اور باتیں

۱۔ پاگل نہیک ہو گیا۔ پاگل پن کے زمانے کے روزے قضا رکھنا واجب نہیں ہے۔

۲۔ کافر مسلمان ہو گیا۔ کفر کے زمانے کے روزے قضا رکھنا واجب نہیں ہے۔

توجہ: اگر مسلمان کافر ہو جائے اور پھر واپس اسلام کی طرف لوٹ آئے تو کفر کے زمانے کے روزے قضا رکھنا ضروری ہو گا۔

۳۔ اگر انسان مت یا مددوں ہو جائے اور روزہ نہ رکھ سکے تو ان کی قضا واجب ہو گی۔

توجہ: اس سے فرق نہیں پڑتا کہ:

(i) یہ مددوں کی وجہ سے تھی یا دوا یا کسی اور وجہ سے۔

(ii) جان بوجھ کر استعمال کیا تھا، علاج کی غرض سے پیا تھا یا کسی اور وجہ سے۔

۴۔ قضا روزوں کی تعداد:

سوال ۱: یاد نہیں ہے۔ شک ہو رہا ہے کہ ۵ روزے قضا ہوئے تھے یا ۶۔ میری ذمے داری کیا ہے؟

جواب: جتنے روزوں کے بارے میں سو فیصد یقین ہے اتنے قضا رکھیں۔

روزے باقی ہیں

مجھ پر ۱۴۲۷ھ کے ماہ رمضان کے ۵	{
اور	
۱۴۲۸ھ کے ماہ رمضان کے ۴	

سوال ۲: قضا روزے رکھتے ہوئے ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پہلے ۱۴۲۷ھ والے روزے قضا رکھوں اور بعد میں ۱۴۲۸ھ والے۔ یا میری مرضی پر ہے؟

جواب: بس اتنا خیال رہے کہ اگر ۱۴۲۹ھ کا ماہ رمضان آنے میں 4 دن باقی ہیں تو پھر ۱۴۲۸ھ والے 4 روزے پہلے رکھنا واجب ہے۔

اگر یہ مسئلہ نہ ہو تو ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے۔

Case: ۶  
کسی نے بیماری یا حیض یا نفاس کی وجہ سے روزے نہیں رکھے

اور

اس سے پہلے کہ ماہ رمضان ختم ہوتا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔

سوال ۳: کیا یہ روزے اس کے قضا مانے جائیں گے؟

جواب: بھی نہیں۔

## دواہم باتیں

Case - ۱

چھی بالغ ہوئی ہے۔ بیمار نہیں ہے مگر روزہ رکھنے سے کمزوری محسوس کرتی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ سلسلہ سارا سال رہتا ہے یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آ جاتا ہے۔

سوال ۱: کیا اس پر قضا معاف ہے۔

جواب: جی نہیں قضا باقی ہے۔ البتہ فدیہ واجب نہیں ہے۔

Case - ۲

جوانی میں روزے نہیں رکھے اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ توبہ کر چکا ہوں مگر قضا روزے نہیں رکھ سکتا۔

سوال ۲: کیا مجھ پر سے قضا ساقط ہے؟

جواب: جی نہیں۔

سوال ۳: زندگی میں کسی کو اخیر ہنا سکتا ہوں کہ وہ میرے روزے اجرت پر رکھ لے۔

جواب: جی نہیں۔ وصیت کریں تاکہ انتقال کے بعد ورثاء اس سلسلے میں کچھ اقدام کر سکیں۔

اگر چاہیں تو انتقال کے بعد ۱/۳ ماں میں سے اجرت پر روزے رکھوانے کی وصیت کر دیں۔

## ماں باپ کے قضا روزے

۱۔ بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ ماں باپ کے قضا روزے رکھنے یا کسی سے رکھوانے (چاہے اس کے لیے رقم خرچ کرنا پڑے)

۲۔ بڑے بیٹے سے مراد:

• ماں باپ کے انتقال کے موقع پر زندہ بیٹوں میں جو سب سے بڑا ہے وہ مراد ہے۔

• یہ سب سے بڑا ہونے کے باوجود ممکن ہے اس بھائی سے چھوٹا ہو جس کا انتقال ماں باپ کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔

• بیٹوں اپر کوئی ذمے داری نہیں ہے۔

۳۔ • ماں یا باپ کے جن قضا روزوں کا یقین ہے بس وہی بڑے بیٹے پر واجب ہوں گے۔

• جن کے بارے میں شک ہے وہ واجب نہیں ہیں۔

۴۔ اگر بڑا بیٹا ان قضا روزوں کو نہ رکھنے یا رکھنے سے پہلے ہی انتقال کر جائے تو دوسرے بیٹے کی کوئی ذمے داری نہیں ہے۔

سوال ۱: میں بڑا بیٹا ہوں۔ مجھ پر اپنے بھی قضا روزے ہیں اور مرحوم والد صاحب کے بھی۔ کون سے روزے پہلے رکھوں؟

جواب: دونوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے کسی کو بھی پہلے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے قضا روزے گذشت ماہ رمضان کے ہیں اور آخر مدد ماہ رمضان سر پر ہے یعنی اتنے ہی دن بیچ ہیں جتنے روزے آپ پر باقی ہیں تو ان کو پہلے رکھنا ضروری ہے۔

## مسافر کے روزے

شرائط مکمل ہوں تو مسافر کے لیے:

(الف) ۴ رکعتی نمازیں (ظہر، عصر، عشاء)

2 رکعتی ہو جاتی ہیں

اور

(ب) روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ بعد میں قضا رکھنا واجب ہوتا ہے۔

نوٹ: ان شرائط کی تفصیل جانے کے لیے توضیح المسائل کی طرف رجوع کریں۔

### چند نکات:

۱۔ ماہ رمضان میں سفر کرنا حرام نہیں ہے لیکن روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا مکروہ ہے۔

۲۔ ماہ رمضان میں مسافر اور اسی طرح ہر اس شخص کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کے لیے پہنچ بھر کر کھانا کھانا اور جماع کرنا مکروہ ہے۔

۳۔ اگر روزہ دار ظہر کے بعد سفر کرے تو اس دن کا روزہ مکمل کرنا واجب ہے۔

۴۔ اگر ظہر سے پہلے سفر کرے تو روزہ باطل ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ارادہ رات سے تھایا نہیں۔

☆ اس صورت میں بھی کھانا پینا وغیرہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک حد ترخص تک نہ پہنچ جائے۔

سوال ۱: حد ترخص یعنی؟

جواب: وہ جگہ جہاں سے نہ اذان شہر نائل دے اور نہ شہر کی دیوار دکھائی دے۔

۵۔ اگر مسافر ظہر سے پہلے دن پہنچ جائے یا  
 میں سے کسی پر عمل نہیں  
 کیا ہے تو روزہ رکھنا  
 واجب ہے اگر ایسا کوئی  
 کام کیا ہے یا ظہر کے  
 بعد داخل ہو تو اس دن  
 کارروزہ نہیں رکھ سکتا بعد  
 میں قصار کھے۔

ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اسے 10  
 دن نہیں رکھنا ہے تو اگر:

## مستحب روزہ

**سوال ۱:** جس پر ماہ رمضان کا فضا روزہ ہے کیا وہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے؟

**جواب:** جی نہیں۔

**سوال ۲:** کوئی اور روزہ مثلاً کفارے یا نذر کا باقی ہے۔ کیا مستحب روزہ رکھ سکتا ہے؟

**جواب:** جی ہاں۔ (آیت اللہ خوبی، آیت اللہ سیستانی)

جی نہیں۔ (امام ثعلبی، آیت اللہ خامنہ ای)

**سوال ۳:** میں نے مستحب روزہ رکھا اور ایک مومن دوست نے مجھے کھانے پر  
کر لیا۔ میرے لیے کیا بہتر ہے؟ دعوت قبول کر کے روزہ  
توڑ دینا یا روزہ مکمل کرنا؟

**جواب:** دعوت قبول کر کے مستحب روزہ توڑ دینے میں زیادہ ثواب ہے۔

**سوال ۴:** بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھ سکتی ہے؟

**جواب:** جی نہیں۔

## اعتكاف

**اعتكاف** یعنی: مسجد میں کچھ شرائط کے ساتھ ٹھہرنا۔ یہ ایک مستحب عبادت ہے۔

**مکلف** یعنی: اعتكاف کرنے والا۔

سوال ۱: کیا اعتكاف واجب بھی ہو سکتا ہے؟

جواب: نذر (منت)، حرم یا عہد کی وجہ سے واجب ہو سکتا ہے۔

### اعتكاف کی شرائط:

۱۔ مکلف عاقل ہو: پاگل کا اعتكاف صحیح نہیں۔

۲۔ نیت: فُرِيَة إلَى اللَّهِ . یعنی خدا کے ایک مستحب حکم

کو انجام دینے کے لیے اعتكاف کرتا ہوں۔

واضح رہے کہ نیت ارادے کا نام ہے۔

زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔

۳۔ مکلف کا روزہ دار ہونا:

۴۔ اعتكاف روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

۵۔ یہ روزہ چاہے ماہ رمضان کا ہو یا دوسرے

ہمینوں میں تھا یا مستحب کی نیت سے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا۔

۶۔ اعتكاف کی مدت: کم از کم ۳ روز۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں۔

۵۔ اعتکاف کس مسجد میں ہو؟

(i) مسجد الحرام (خانہ کعبہ والی مسجد)۔

(ii) مسجد نبوی (جہاں روضۃ رسول ہے)۔

(iii) مسجد کوفہ

(v) مسجد بصرہ

(i) اس کے علاوہ شہر کی جامع مساجد میں رجاء مطلوبیت کی نیت سے  
اعتکاف کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۲: رجاء مطلوبیت یعنی؟

جواب: اس امید پر کہ یہ کام خدا کو مطلوب ہے۔

سوال ۳: جامع مسجد یعنی؟

جواب: وہ مسجد ہے جہاں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں۔

سوال ۴: کیا اس مسجد میں نمازِ جمع ہونا بھی ضروری ہے؟

جواب: بھی نہیں۔

۶۔ چند افراد کے لیے اجازت لینا ضروری ہے:

مثال: (i) یہوی اگر اعتکاف کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ شوہر  
سے اجازت لے۔

(ii) ماں باپ کو اذیت ہو رہی ہو تو اولاد پر ضروری ہے کہ

اعتکاف کے لیے ان کی اجازت لے۔

۷۔ دوران اعتکاف، مسجد میں رہنا اور باہر نہ جانا۔

## احکام اعتكاف

سوال نمبرا: میں اعتكاف کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اعتكاف کب سے شروع ہوگا؟  
نیت کب سے کروں؟

جواب: فرض کریں آپ بدھ، جمعرات اور جمعہ یہ تین دن اعتكاف کرنا چاہتے ہیں۔

- اعتكاف کا آغاز بدھ کو اذان صبح سے ہوگا۔

- ☆ یعنی اس سے پہلے پہلے مسجد پہنچ جائیں اور نیت کر لیں

- اعتكاف ختم ہوگا جمعہ کی مغرب پر

- یعنی تین دن اور دو راتیں مسجد میں ٹھہرنا ہوگا۔

خلاصہ (i) بدھ (اذان صبح سے آغاز) پورا عرصہ مسجد میں  
ٹھہرنا ضروری ہے  
(ii) جمعرات خلاصہ  
(iii) جمعہ (اذان مغرب پر اقتام)

- منتخب اعتكاف پہلے اور دوسرے دن توڑنا جائز ہے۔

- تیرا دن شروع ہونے کے بعد اعتكاف نہیں توڑا جاسکتا۔

- اسی طرح چوتھے اور پانچویں دن توڑا جاسکتا ہے چھٹا دن شروع ہونے کے بعد نہیں توڑا جاسکتا۔

خلاصہ ہر تیرے دن اعتكاف نہیں توڑا جاسکتا۔

۳۔ اعتكاف کے دوران مسجد سے باہر چلا گیا:

اعتكاف باطل	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: bottom;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">الف)</span> جان بوجھ کر         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: bottom;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">ب)</span> اپنے اختیار سے         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: middle;"> <span style="font-size: 1.5em;">{</span> </td> <td style="vertical-align: middle;"> <span style="font-size: 1.5em;">}</span> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           اور         </td> <td></td> </tr> </table>	<span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">الف)</span> جان بوجھ کر	<span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">ب)</span> اپنے اختیار سے	<span style="font-size: 1.5em;">{</span>	<span style="font-size: 1.5em;">}</span>	اور	
<span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">الف)</span> جان بوجھ کر	<span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">ب)</span> اپنے اختیار سے						
<span style="font-size: 1.5em;">{</span>	<span style="font-size: 1.5em;">}</span>						
اور							

<span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">ب)</span> اپنے اختیار سے	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: bottom;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">الف)</span> جان بوجھ کر         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: bottom;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">ب)</span> اور         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: middle;"> <span style="font-size: 1.5em;">{</span> </td> <td style="vertical-align: middle;"> <span style="font-size: 1.5em;">}</span> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           معلوم تھا یا نہیں۔         </td> <td></td> </tr> </table>	<span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">الف)</span> جان بوجھ کر	<span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">ب)</span> اور	<span style="font-size: 1.5em;">{</span>	<span style="font-size: 1.5em;">}</span>	معلوم تھا یا نہیں۔	
<span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">الف)</span> جان بوجھ کر	<span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">ب)</span> اور						
<span style="font-size: 1.5em;">{</span>	<span style="font-size: 1.5em;">}</span>						
معلوم تھا یا نہیں۔							

### استثناء (Exception):

اگر کسی عقلی، شرعی یا عرفی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر جائے تو اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔

عقلی ضرورت	شلا
شرعی ضرورت	شلا
غرضی ضرورت	شلا
تیار کی عیادت کے لیے،	
جنازہ میں شرکت کے لیے	

اعتکاف کے دوران حرام ہے:

- ۱۔ جماع کرنا (جنسی تعلقات قائم کرنا)
- ۲۔ کوئی اور جنسی لذت لینا حتیٰ کہ لذت کے ساتھ چھوٹا بھی حرام ہے۔
- ۳۔ استمنا (Masturbation)۔
- ۴۔ خوشبو کا استعمال۔
- ۵۔ خرید و فروخت۔
- اگر کھانے پینے کی کوئی چیز خریدنے پر مجبور ہو تو جائز ہے
- ۶۔ تجارت کرنا (Business)۔
- ۷۔ غلبہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنی بڑائی جتانے کے لیے بحث و مبادث کرنا۔
- دینی موضوعات پر بحث کرنا خوشنودی خدا کے لیے جائز ہے۔
- ۸۔ کسی کو زبردستی اٹھانا اور خود بیٹھ جانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح عصبی بستر پر سونا بھی حرام ہے۔

## عید کے چاند کے متعلق سوالات اور جوابات

آج 29 / رمضان کا دن ہے۔ کچھ دیر میں افطار ہونے والا ہے۔  
نہیں معلوم چاند نظر آئے گا یا نہیں؟

کل ماہ رمضان کی آخری تاریخ ہوگی۔  
ہمیں ایک اور روزہ رکھنے کا موقع ملے گا یا کل عید ہوگی !!!

آگے اس حیرت کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

•

میں ججۃ الاسلام والملمین مولانا شاہد کاشتی صاحب کا شکر گذار ہوں  
جنہوں نے کتاب کے اس حصے کی اصلاح فرمائی ہے۔

•

سوال ۱: کیا میرے لیے چاند کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری ہے؟

جواب: جی نہیں۔

سوال ۲: اگر مجھے پتہ چل جائے کہ چاند ہو گیا ہے تو دوسروں کو بتانا ضروری ہے؟

جواب: جی نہیں۔

سوال ۳: میں نے چاند خود دیکھا ہے۔ کیا مجھے کل عید منانے کا حق ہے؟

جواب: جی ہاں۔ آپ عید کل ہی منائیں گے۔ یہ ضروری ہے۔

سوال ۴: عید منانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟

جواب: بس دو چیزوں کا خیال رکھیں:

(الف) اگر فطرہ واجب ہے تو وہ نکالیں۔

(ب) عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔

سوال ۵: اور عید کی نماز؟

جواب: غیبت امام میں واجب نہیں ہے۔ مستحب ہے۔

سوال ۶: نئے کپڑے۔۔۔؟

جواب: واجب نہیں ہے۔

سوال ۷: سویاں؟

جواب: کچھ واجب نہیں ہے۔

سوال ۸: خود دیکھنے کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے چاند کو ثابت کرنے کا؟

جواب: (i) اگر ایک شخص کے کہنے سے بھی اطمینان ہو جائے تو چاند

ثابت ہو جائے گا۔

(ii) وہ عادل افراد گواہی دیں کہ چاند ہو گیا ہے تو چاند ثابت ہو جائے گا۔

(iii) اتنے لوگ چاند نظر آنے کی گواہی دیں کہ یقین حاصل ہو جائے۔

سوال ۹: اگر سائنسی تحقیق سے کوئی چاند نظر آنے کے بارے میں بتائے تو کیا اسے Follow کیا جاسکتا ہے؟

جواب: اگر آپ کو یقین ہے تو بالکل Follow کرنا ہو گا۔

سوال ۱۰: میرے لیے چاند ثابت ہو گیا ہے مگر میری بیوی نہیں مانتی۔ میں کیا کروں؟

جواب: اگر آپ کی بیوی کے نزدیک ثابت نہیں ہوا تو انھیں مانا بھی نہیں چاہیے۔

سوال ۱۱: پھر کیا ہو گا؟ وہ روزہ رکھے گی اور میں عید مناؤں گا؟

جواب: اس میں مسئلہ کیا ہے؟

سوال ۱۲: وہ سحری کرے گی اور میں منہ دیکھوں گا۔ وہ افطار کرے گی اور میں تماشا دیکھوں گا؟

جواب: آپ کے لیے روزہ رکھنا حرام ہوا ہے۔ سحری کے موقع پر آپ ناشتر کر لیجھے گا۔ ان کی افطاری آپ کا Dinner ہو گا۔

سوال ۱۳: اور میں دن بھر کھاتا رہوں اور وہ مجھے دیکھے؟

جواب: آپ ان سے اظہار تبھی کے لیے دن بھرنہ کھائیں۔ کس مجہد نے کہا ہے کہ عید کے دن کھانا ضروری ہے۔

سوال ۱۳: میں آج عید منا رہا ہوں شہر کی اکثریت کل۔ کیا میں کل سب کے ساتھ جا کر جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟

جواب: رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔

سوال ۱۴: رجاء مطلوبیت یعنی؟

جواب: اس امید پر کہ یہ عمل خدا کو مطلوب ہے۔

سوال ۱۵: اور باقی Celebrations بھی اگلے دن کر سکتا ہوں؟

جواب: مثلاً؟

سوال ۱۶: مثلاً گلے مانا، مبارکباد و دینا وغیرہ؟

جواب: یہ سب اگلے کتنی دنوں تک کرتے رہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے۔

### ﴿خلاصہ﴾

عید کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کی تین ممکنہ صورتیں ہیں:

(i)	چاند نظر آگیا	• عید منا میں کل پہلی شوال ہے
		• روزہ رکھنا حرام ہے نظرہ نکالیں
(ii)	چاند نظر نہیں آیا	• کل 30 رمضان ہے روزہ رکھیں
(iii)	نہیں معلوم چاند ہوا یا نہیں	• عید پرسوں منا میں یہ واجب ہے

سوال ۱۷: میں نے 30 رمضان سمجھ کر روزہ رکھ لیا۔ دن میں کسی وقت پڑھ چلا کہ چاند نظر آگیا تھا۔ میں کیا کروں؟

جواب: روزہ توڑ دیں اور فطرہ نکالیں۔

## فطرہ

• فطرہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔

• یہ ماہ مبارکِ رمضان کے روزوں کی قبولیت اور سال آئندہ تک  
حفظ و امان کا سبب ہے۔ (مفائق الجنان)

• آگے فطرہ کے مسائل اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کئے  
جاتے ہیں کہ آسانی سے مومنین اپنی ذمے داری پوری کر سکیں۔  
تفصیلات کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کریں۔

• جیتنہ الاسلام والملیمین مولانا علی ناصر مہدوی صاحب نے اس مختصر  
کتابچے کی اصلاح فرمائی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔

سوال: فطرہ کون نکالے؟

جواب: جس میں یہ باتیں پائی جاتی ہوں:

(i) بالغ ہو (نابالغ پر فطرہ نہیں ہے)

اور

(ii) عاقل ہو (پاگل پر فطرہ نہیں ہے)

اور

(iii) فقیر ہو (فقیر پر فطرہ نہیں ہے)

نوٹ: فقیر وہ شخص ہے جس کے اپنے معاشرتی حیثیت (Social Status) کے لحاظ سے خرچے زیادہ اور آمدی کم ہو

اور

(iv) باہوش ہو (بے ہوش پر فطرہ نہیں ہے)

اور

(v) غلام نہ ہو (آزاد ہو)۔

سوال: فطرہ کس کا نکالے؟

جواب: ہر شخص اپنا اور جو اس کے عیال شمار ہوتے ہوں (یعنی اس کے یہاں کھانے والے شمار ہوتے ہوں) ان کا فطرہ نکالے چاہے وہ بالغ ہوں یا نابالغ۔

ذیلی سوال: (i) اگر زیدِ حسن کے گھر کھانے والا شمار ہوتا ہے تو کیا

خود زید پر اپنا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے؟

جی نہیں۔

جواب:

ذیلی سوال: (ii) یہ کیسے پڑھے کہ زید حسن کے گھر کھانے والا شمار ہوتا ہے یا نہیں؟

جواب: اس کا فیصلہ معاشرہ کرے گا۔ اگر معاشرہ زید کو حسن کے گھر کھانے والا شمار کرتا ہے تو زید کا فطرہ حسن پرواجب ہوگا ورنہ نہیں۔

ذیلی سوال: (iii) میرا فطرہ میرے والد پر واجب ہے مگر وہ نہیں نکالتے۔ اس صورت میں کیا مجھ پر اپنا فطرہ خود نکالنا واجب ہے؟

جواب: نہیں۔

سوال ۳: فطرہ کتنا نکالے؟

3 کلو چاول
یا
اس کی قیمت

3 کلو آٹا
یا
اس کی قیمت

نوٹ: (i) قیمت نکالنے کی صورت میں یہ معلوم ہوتا چاہیے کہ آٹے کی قیمت نکالی جا رہی ہے یا چاول کی۔  
(ii) واضح رہے کہ آٹے اور چاول کے علاوہ کسی اور جنس سے بھی فطرہ نکالا جاسکتا ہے۔ مگر اس کی تفصیل ہے جو بڑی کتابوں میں درج ہے۔

سوال ۳: فطرہ نکال کر کس کو دیں؟

جواب: ایسے شیعہ اشاعری مومکن کو جو:

(i) فقیر ہو (فقیر کی تعریف سوال نمبر ۱ کے جواب میں ہو چکی)

اور

(ii) شرابی نہ ہو

اور

(iii) بے نمازی نہ ہو

اور

(iv) اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو (مثلاً داڑھی Shave کرنے والا یا

بے پرده عورت نہ ہو)

اور

(v) فطرے کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرنے والا نہ ہو۔

نوث: (i) ایسے شخص کو فطرہ دینے سے ذمے داری پوری ہو جاتی ہے۔

(ii) غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جاسکتا۔

سوال ۵: (الف) فطرہ کب نکالیں؟

جواب: شب عید سورج غروب ہونے کے بعد

سوال ۵: (ب) کب تک نکال لیتا ہے؟

جواب: • اگر نماز عید پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے پہلے،

• درنہ ظہر سے پہلے پہلے۔

**ذیلی سوال:** میری نظر میں ایک فقیر شخص ہے اور وہ بیان کردہ شرائط پر بھی پورا اترتا ہے۔ کیا میں اسے عید کی رات سے پہلے یا حتیٰ ماه رمضان سے بھی پہلے فطرہ دے سکتا ہوں؟

**جواب:** آپ اسے قرض دے دیں اور بعد میں عید کی رات اس قرض کو فطرہ کے ساتھ adjust کر دیں۔ نیت کریں کہ قرض والی رقم سے فطرہ نکال رہا ہوں۔

**سوال ۶:** کیا فطرہ نکالنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟

**جواب:** جی ہاں۔ فطرہ نکالنا عبادت ہے۔ اس لیے نیت بھی ضروری ہے۔ یاد رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں۔ صرف یہ ارادہ کہ میں یہ کام حکم خدا انجام دینے کے لیے کر رہا ہوں، نیت ہے اور یہ کافی ہے۔

**سوال ۷:** کیا فطرہ دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ فطرہ ہے؟

**جواب:** جی نہیں۔ بلکہ اگر لینے والے کی خودداری مجروح ہو رہی ہو تو بہتر ہے کہ نہ بتایا جائے۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



# کاروانِ صفا

برائے

# ح

ہمراہ

شیخ شبیر میشی

مولانا محمد رضا داؤدیانی

0322-2573545

0333-3151575

ایمیل info@al-safa.org

رابطہ